



# THE SENATE OF PAKISTAN DEBATES

## OFFICIAL REPORT

Wednesday, December 24, 1975

### CONTENTS

	PAGES
Starred Questions and Answers ... ..	237
Deferred Starred Questions and Answers ... ..	240
The Antiquities Bill, 1975— <i>Passed</i> ... ..	252
Resolution Re : Compulsory education upto fifth standard— <i>Deferred</i> ... ..	257
Resolution Re : Shifting of Transit Godowns from Peshawar to Landikotal Railway Station ... ..	257
Resolution Re : Strengthening of research in development aspects of the arid zones and barani areas— <i>Deferred</i> ... ..	263
Resolution Re : Top Priority by WAPDA to control water- logging and salinity in District Jacobabad— <i>Deferred</i> ... ..	263
Resolution Re : Commission to study feasibility of utilization of run-off water in plains and valleys— <i>Deferred</i> ... ..	264
Resolution Re : Extensive study to determine relative back- wardness of each district for removal of disparities— <i>Deferred</i> ... ..	264
Resolution Re : Removal of all customs-barriers within districts of the province of Baluchistan— <i>Deferred</i> ... ..	264
Assessment of performance of the Senate during the closing year of 1975 ... ..	265
Prorogation ... ..	268



**SENATE DEBATES**  
**SENATE OF PAKISTAN**

---

Wednesday, December 24, 1975

---

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber (State Bank Building), Islamabad, at four of the clock in the evening, Mr. Chairman (Mr. Habibullah Khan) in the Chair.

---

*(Recitation from the Holy Qur'an)*

---

**STARRED QUESTIONS AND ANSWERS**

**Mr. Chairman :** Now, we take up questions.

**DUTY HOURS OF C.G.H. NURSES**

112. \***Khawaja Mohammad Safdar** (put by Rao Abdus Sattar) : Will the Minister for Labour, Health, Social Welfare and Local Bodies be pleased to state :

(a) the number of hours that the nurses of the Central Government Hospital, Rawalpindi, are supposed to be on duty during :—

(i) the day ;

(ii) the night ;

(b) whether it is a fact that nurses put on night duty are doing it for full month at a stretch ;

(c) whether it is a fact that due to paucity of nursing staff, each nurse is assigned twelve hours duty every twenty-four hours ;

(d) whether the nurses, who are on duty for more than eight hours in twenty-four hours, are allowed over-time allowance ; if so, the rate of the said allowance ;

(e) the names of the nurses, and the amount paid to each one of them as over-time allowance for the month of November, 1975 ;

(f) whether the nurses assigned to operation room duty are allowed any special allowance ; if so, the rate of the said allowance ;

[Khawaja Mohammad Safdar]

(g) the names of the nurses and the amount paid to each one of them as operation room allowance for the month of November, 1975 ; and

(h) whether the Minister is prepared to lay on the Table the duty roster of the nurses of the Central Government Hospital, Rawalpindi, for the month of November, 1975 ?

Mr. Hafeezullah Cheema (read by Malik Mohammad Akhtar) :

(a) (i) 8 hours duty with one day off in a week and half day on Sunday.

(ii) 12 hours duty with one night off in a week.

(b) Yes. It is done by rotation at an interval of 3-4 months.

(c) No.

(d) No.

(e) Not applicable.

(f) Yes. The Head Nurses who are Incharge of Operation Theatre are paid Rs. 30 per month.

(g) Mrs. V. M. Daniel, Head Nurse OT-I :

Mrs. E. G. Phillips, Head Nurse OT-II.

Each got Rs. 30 for the month of November, 1975.

(h) Laid on the table.

No. F. 08-M/75-N. S.

CENTRAL GOVERNMENT HOSPITAL

Shahrah-e-Pehlvi, Rawalpindi

NURSES DUTY ROSTER FOR THE MONTH OF NOVEMBER, 1975

Officer Ward Total Beds : 22	Ward 1 (Male Urology & eye) Total Beds : 26	Ward 2 (Male Surgical) Total Beds : 35	Ward 3 (Male Medical & ENT) Total Beds : 28
H/N Mrs. A. B. Usmani	C/N Musarat Jehan	H/N Mrs. L. G. Bhatti	C/N T. Malik
C/N R. David	C/N Mrs. M. Yousaf	C/N A. Aziz	C/N Mrs. Younus
C/N B. Waheed	St/N Z. Qazi II	C/N P. Mahboob	St/N G. Nargis
St/N T. Naqvi	St/N Razia Shah	C/N N. Noor	St/N Megde- line
St/N N. Emanuel	St/N R.F.A. Khan	C/N S.S. Masih	St/N Rifat I
St/N. Elezabeth		St/N Christina	
		St/N N. Azad	
		St/N Margret I	
		St/N N. Akhtar I	
<b>NIGHT</b>	<b>NIGHT</b>	<b>NIGHT</b>	<b>NIGHT</b>
St/N Bilquees	St/N P. Aslam	C/N I. Begum	St/N Fahmida
St/N R. Sultana		St/N A. Jehan	

*Abbreviation :—*

H/N Head Nurse (Sister)  
 C/N Charge Nurse (Staff Nurse)  
 St/N Student Nurse  
 N/I Nursing Instructor

## NURSES DUTY ROSTER FOR THE MONTH OF NOVEMBER, 1975

Ward 4 Male Medical Total Beds : 27	Ward 5 (Maternity & Gynae.) Total : Beds : 41	Ward 6 (Female Medical) Total Beds : 26	Ward Paed Total Beds : 14
H/N R. Samuel	H/N Mrs. L. Kidwai	C/N V.S.J. Peter	H/N F.I. Din
C/N V.G.M. Shaw	C/N M. Yousaf	C/N Rashida	C/N Maqsoda
C/N B. Abdullah	C/N Meena Peter	C/N Nuzhat	C/N T. Sardar
St/N A. Jan	C/N Zulekha	St/N N. Parveen	St/N Tibetha
St/N Shaheen II	C/N Jamila	St/N Rani	St/N R. Safdar
St/N T. Aziz	C/N Rashida St/N Z. Jalal St/N 10 (Midwifery)	St/N G. Sughra	
<i>NIGHT</i>	<i>NIGHT</i>	<i>NIGHT</i>	<i>NIGHT</i>
C/N C. Gill	C/N T. Kousar	St/N Zareena	St/N K. Jamil
St/N N. L. Din	St/N Midwifery (two)	St/N S. Aurangzaib	St/N Shaheen

## NURSES DUTY ROSTER FOR THE MONTH OF NOVEMBER, 1975

Wards 7 & 8 (Female Government Servant & ENT) Total Beds : 26	Ward 9 (Female Surgical) Total Beds : 26	Ward 10 (Female Eye Uro- logy & Psychiatric) Total Beds : 22	Ward 11 (Male Govern- ment Servant, Urology Eye) Total Beds : 22
C/N M. Joseph	C/N Mrs. B. James	C/N K. Akhtar	H/N Mrs. F. Azmat
C/N G. Jacob	C/N S. Amin	C/N Munawar	C/N R. Fahmida
St/N Saima	C/N T. Akhtar	St/N S. Shafeeq	St/N R. Ahmed
St/N Sabiha	St/N S. Mirza II	St/N Safina	St/N Zaibunisa
	St/N G. Karim		St/N S. Bashir
			St/N K. Fatima
<i>NIGHT</i>	<i>NIGHT</i>	<i>NIGHT</i>	<i>NIGHT</i>
St/N Rabeecca	St/N T. Qureshi St/N G. Fizza	St/N Shahida	St/N T. Asif

[Mr. Hafeezullah Cheema]

## NURSES DUTY ROSTER FOR THE MONTH OF NOVEMBER, 1975

Ward 12 (Intensive Care Unit) Total Beds : 12	O. R. I. (Operation Room)	O. R. II (Operation Room)	O. P. D.
C/N M. Amjad	H/N Mrs. V. M. Daniel	H/N Mrs. E. G. Phillips	N/H Mrs. M.F. Daniel
C/N K. Iftikhar	C/N K. Naseer	C/N B. Rahman	Naid Z. Jamil
C/N Z. Islam	C/N N. Abbass	C/N Sharafunisa	Naid T. Paul (Paed)
St/N S. Nawab	C/N Nargis	St/N. S. Khalique	All day evening duty in Casualty.
St/N Shamshad	C/N Shahida	St/N T. Feroze	
St/N Miskeen	St/N G. A. K. Ali		
	St/N Rafiq		
	St/N Zamarud		
<b>NIGHT</b>			
St/N N. Hamdani			
St/N Saraphine			

## NURSES DUTY ROSTER FOR THE MONTH OF NOVEMBER, 1975

Nurses on Leave	Nursing School
C/N N. Hussain	Mrs. G. Gill
H/N S. Afzal	Mrs. Akhtar Sultana
C/N P. I. Masih	Mrs. Zubeda Khan
C/N Z. Begum	30 days
C/N Z. Islam	32 days
C/N Mr. Y. Khan	Study
N/I F. Ali	Study
St/N M. P. Lal	
Naid A. K. Kazi	
Night Supervisor : C/N Nasreen Ashraf.	

Mr. Chairman : Next.

## DEFERRED STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

(Originally set down for answer on 22nd December, 1975)

## PAKISTAN TELEVISION CORPORATION

103. \*Khawaja Mohammad Saffar (put by Rao Abdus Sattar) : Will the Minister-in-Charge of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the total revenue of Pakistan Television Corporation during the year 1974-75 and the estimated revenue for the year 1975-76 ;

(b) the total expenditure of Pakistan Television Corporation during the year 1974-75 and the estimated total expenditure for the year 1975-76 ;

(c) the estimate of Pakistan Television Corporation's income from TV Licence fees during 1975-76 ;

(d) the total estimate of Pakistan Television Corporation's income from the TV commercials during the year 1975-76 ; and

(e) the estimated expenditure to be incurred on salaries of the Pakistan Television Corporation's employees for the year 1975-76 :

**Malik Muhammad Akhtar :**

(a) total revenue of the P. T. V. Corporation during 1974-75 was	...	...	...	Rs.	4,38,56,596.00
and estimated revenue for 1975-76 is	...	...	...	Rs.	12,09,86,000.00
(b) total expenditure :					
1974-75	...	...	...	Rs.	8,50,41,413.00
1975-76	...	...	...	Rs.	12,15,60,800.00
(c) Estimated licence fee income for 1975-76 is	...	...	...	Rs.	2,50,00,000.00
(d) Estimated Income from T. V. Commercials for 1975-76 is	...	...	...	Rs.	3,50,00,000.00
(e) Estimated expenditure on staff salaries for 1975-76 is	...	...	...	Rs.	3,09,74,400.00

**Mr. Chairman :** No supplementary ? Then, next question.

#### ALLOCATION FOR PUBLIC RELATIONS IN PTV CORPORATION'S BUDGET

104. \***Khawaja Mohammad Safdar** (put by Rao Abdus Sattar) : Will the Minister-in-Charge of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the allocation for public relations in Pakistan Television Corporation's budget for the year 1975-76 ; and

(b) the break up of such allocation indicating the expenditure to be incurred (i) by the Managing Director, the Director Programme Administration, the Director News and Current Affairs, the Director Administration and Personnel of the Pakistan Television Corporation ; (ii) by the Controller of Sales, the Controller of Programmes, the Controller of News and Current Affairs, Controller of News Coordination, each Controller of Finance and by each General Manager of PTV-Lahore, Karachi, Rawalpindi, Peshawar, Quetta and the Central Sales Office, at Karachi ?

**Malik Mohammad Akhtar :** (a) Allocation of expenditure on public relationing in Pakistan Television Corporation during 1975-76 is Rs. 1,30,800 (Rupees One lakh thirty thousand eight hundred).

(b) A statement showing the allocations is placed on the table of the House.

STATEMENT SHOWING THE ALLOCATIONS FOR  
THE EXPENDITURE TO BE INCURRED  
DURING 1975-76 ON PUBLIC RELATIONING BY PTVC.

	Rs.
1. Managing Director	30,000.00
2. Director Programme Administration	7,200.00
3. Director News and Current Affairs	7,200.00
4. Director Administration Personnel	7,200.00
5. Controller of Sales	7,200.00
6. Controller of Programmes	7,200.00
7. Controller of News and Current Affairs	7,200.00
8. Controller of News Coordination	7,200.00
9. Controller of Finance	7,200.00
10. General Manager, T. V. Centre, Lahore	7,200.00
11. General Manager, T. V. Centre, Karachi	7,200.00
12. General Manager, T. V. Centre, Rawalpindi	7,200.00
13. General Manager, T. V. Centre, Peshawar	7,200.00
14. General Manager, T. V. Centre, Quetta	7,200.00
15. General Manager, Central Sales Office, Karachi	7,200.00
Total	1,30,800.00

**Sardar Mohammad Aslam :** Mr. Chairman, Sir.

**Mr. Chairman :** Sardar Sahib you want to ask supplementary question ?

**Sardar Mohammad Aslam :** Yes, Sir.

سردار محمد اسلم : کیا وزیر صاحب اس اصطلاح کی وضاحت فرمائیں گے کہ پبلک ریلیشنز ایکسپینڈیچرز میں کس قسم کے اخراجات ہوتے ہیں ؟

ملک محمد اختر (وزیر مملکت برائے پارلیامانی امور) : جناب والا ! یہ اخراجات فارن ڈیلیگیشن پر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میٹنگز یا پریس کانفرنسز ہیں یہی دو

میجر آئیٹمز ہیں جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ کوئی فیسٹیول دینا پڑتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں سینیٹ یا نیشنل اسمبلی کے لیے فارن ریلیشنز پر کرنا پڑتا ہے۔

سردار محمد اسلم : جناب والا !

جناب چیئرمین : کیا کچھ رہ گیا ہے ؟

سردار محمد اسلم : جناب والا ! اب اس کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ پہلے اس کے مقصد کا پتہ نہیں تھا جناب والا ! انہوں نے فرمایا ہے کہ پبلک ریلیشنز پر اخراجات کیئے جاتے ہیں، پریس کانفرنسز اور فارن ڈیلیگیٹس، یہ دو چیزیں انہوں نے میجر آئیٹمز میں بتائی ہیں۔ فارن ڈیلیگیٹس اور پریس کانفرنسز جو ٹی وی اسٹیشنز لاہور، پنڈی، پشاور اور کوئٹہ سے متعلقہ ہوتی ہیں ان اخراجات کو چھوڑ کر ۳۰ ہزار روپے کی الوکیشن مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیے رکھی گئی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائیں ؟

ملک محمد اختر : جناب والا ! ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن کا انتظام مینیجنگ ڈائریکٹر کے سپرد ہوتا ہے۔ انہیں ہوٹل انٹرکنٹیننٹل میں بینکویٹ دینا پڑتا ہے۔

That costs about sixty to seventy thousand rupees. I have got experience of that.

Mr. Chairman: You have got experience of what ?

Malik Mohammad Akhtar : Hoasting, Sir.

سردار محمد اسلم : وزیر موصوف کے جواب کا یہ مطلب ہوا کہ یہ رقم مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیے بہت کم ہے کیونکہ بینکویٹ پر ساٹھ ستر ہزار خرچ آتا ہے تیس ہزار میں بینکویٹ نہیں ہو سکتا۔

ملک محمد اختر : چھوٹے چھوٹے ڈنر کرتے ہیں۔ بینکویٹ نہیں کرتے ہیں۔

سردار محمد اسلم : سپلیمنٹری سر ! جناب والا، ایسے اداروں کے لیے جو میڈیا آف انسٹرکشن ہوں ان کے لیے ۱ لاکھ ۳۸ ہزار پبلک ریلیشنز کے نام پر رکھنا جو صرف پارٹیوں اور بینکویٹ کے لیے مختص ہوں، جن سے کوئی کنسٹرکٹو کام نہیں ہوتا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیا یہ زیادہ رقم نہیں ہے ؟

ملک محمد اختر : جناب والا ! میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹیلیویژن پر سالانہ خرچ کم و بیش ۸ کروڑ روپے بن جاتا ہے اور یہ خرچ کل رقم کا ایک فیصد ہے اس لیے اس کی اجازت ہی دیں۔ میرے دوست اس پر اعتراض نہ کریں بلکہ ان کی پہلی تجویز اچھی ہے کہ یہ رقم کم ہے، زیادہ ہونی چاہئے۔

آگے ---

قاضی فیض الحق : ضمنی سوال۔ کیا وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ کوئٹہ اور پشاور دونوں ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا اور اب یہ دونوں اسٹیشن

[Qazi Faizul Haque]

خسارے میں جا رہے ہیں یہ بات اخبار میں بھی آئی تھی یہ دونوں اسٹیشن بند ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر بہارا خسارہ فیڈرل گورنمنٹ پورا نہیں کرے گی تو ہمیں اسٹیشن بند کرنے پڑے گے۔ کیا یہ صحیح ہے؟

ملک محمد اختر: جناب والا! اخبار میں شاید یہ بات آئی ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ٹیلی ویژن جو ہے ان کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوئٹہ اور دوسرے ہمارے جو سنٹر N.W. F. P. میں ہیں ان میں چاہے کم آمدنی ہو اور زیادہ اخراجات بھی ہوں تو ہم ان کو چلائیں گے کیونکہ ہم نے ٹیلی ویژن introduce کیا ہے۔ اس لیے چاہے کم آمدنی ہو اور اخراجات زیادہ بھی ہوں تو آپ فکر نہ کریں ہم آپ سے کافی لائسنس فیس وصول کیا کریں گے یہ تو چائے والی بات ہے اس وقت آپ ۹ کروڑ روپے کی چائے پی رہے ہیں۔

#### FEDERAL GRANTS TO P.T.V. CORPORATION

105. \*Khawaja Mohammad Safdar (put by Rao Abdus Sattar): Will the Minister-in-Charge of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) total amount of grants made by the Federal Government to Pakistan Television Corporation for the year 1975-76;

(b) the amount to be spent on development projects; and

(c) the amount to be spent on the normal operation of Pakistan Television Corporation?

Malik Mohammad Akhtar: (a) In the Federal Government budget for 1975-76 the following amounts have been provided for payment to the Pakistan Television Corporation:

Rs. 60 lacs for Public Service Programmes.

Rs. 3.50 crores as loans for Development Projects.

(b) Rs. 9.50 crores. This will be made up of Rs. 3.50 crores as Government loan and Rs. 6 crores to be received through issue of debentures under Government guarantee.

(c) The Pakistan Television Corporation has made a budget provision of Rs. 12.15 crores.

قاضی فیض الحق: کیا وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ اس allocation میں سے کوئٹہ ٹیلی ویژن سنٹر کی allocation کیا ہے۔

ملک محمد اختر: جناب والا! میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس وقت ان کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں لیکن میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئٹہ ٹیلی ویژن کے مکمل اخراجات پورے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو بھی وہاں سے آمدنی ریونیو یا انکم ٹیکس سے ہوگی اس کو maintain کرنے کے بعد

تمام کے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے کیونکہ حکومت جو ادارے چلاتی ہے ان میں چاہے نفع ہو یا نقصان - حکومت ان کو چلاتی ہے اور پھر ٹیلی ویژن تو ایک ایسا media ہے جس سے ہم حکومت کا viewpoint اور ملک کی سالمیت کے لیے کافی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور کوئٹہ کا ٹیلی ویژن سٹیشن ایسا ہے جس کی ترقی ہمارے لیے سب سے اہم ہے کیونکہ کوئٹہ سٹیشن کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لنک ہے جس کے ذریعے ہم دور دراز کے علاقوں میں اگر فری پوسٹر بھی لگا کر حکومت کے خیالات کی اشاعت کریں تو یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے۔

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** Supplementary, Sir.

**Mr. Chairman :** Yes ?

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** Sir, the total expenditure on the normal operations of Pakistan Television Corporation anticipated for 1975-76 is 12.15 crores. The Minister has also informed us that the total revenue expected during the current year will be about Rs. 12.09 crores. Sir, there is a big jump from 4.38 crores to anticipated 12.09 crores. What are the major heads in which the Television Corporation is expected to increase its revenues ?

**Malik Mohammad Akhtar (Minister of State for Parliamentary Affairs) :** Sir, we mainly depend on expansion of television in public. That is our major and main source of income. Secondly, as we get more and more television sets we get more commercial business. These are only the two sources of income. Finally, whatsoever is deficient, as I have repeatedly explained, that is the ultimate responsibility of the Government.

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** Is the loss of over Rs. 3 crores included in the revenues of 12 crores.

**Malik Mohammad Akhtar :** Government loan means that it is from the Government exchequer. Government loan is always given from the Government funds.

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** Sir, my question was: Whether the loan of 3 crores odd is included as part of the revenues anticipated by the Pakistan Television Corporation ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I think, there is some confusion. I will again read the answer, and I may be clear by repeating it. I will still try to elucidate it. This will be made up of Rs. 3.50 crores as Government loan. That means that Government is going to give loan and once it gives loans, it gives from its own exchequer, from the Consolidated Fund. There is only one Fund which is available with the Government and that is . . . .

**Mr. Chairman :** That is not the question.

**Malik Mohammad Akhtar :** Then, I may be made to understand.

**Mr. Chairman :** Well, Mr. Leghari, he has not been able to understand your question. I don't know whether it is your fault or his fault. You just repeat your question. I have understood your question but you make him, understand.

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** I will try to do that, Sir.

**Mr. Chairman :** Whether the loan of the Government is included in the revenues ?

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** That is right, Sir.

**Mr. Chairman :** Yes, you put your question again.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I regret I am unable to explain the position at this stage. But, normally Federal Government loans are from the Government exchequer.

**Mr. Chairman :** No, no, that is not the question. Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari, will you kindly repeat your question in more clear terms ?

**Mr. Farooq Ahmad Khan Leghari :** Sir, my question is that the honourable Minister in answer to part (c) of question No. 105 has stated that the Pakistan Television Corporation has made a budget provision of Rs. 12.15 crores for the normal operations of the Corporation. At the same time he has mentioned that an amount of Rs. 3.50 crores will be provided by the Federal Government as loan. What I want to know is, whether this amount of loan, Rs. 3.50 crores, is included as part of the revenues of Rs. 12.15 crores that the Pakistan Television Corporation has estimated and answer to which was given in question No. 103?

**Mr. Chairman :** Yes.

**Malik Mohammad Akhtar :** It is not clear to me as yet.

**Mr. Chairman :** But you have been answering so far.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, what I can understand, the answer is that the Pakistan Television Corporation has made a budget provision of Rs. 12.15 crores.

**Mr. Chairman :** That is clear to him.

**Malik Mohammad Akhtar :** That is in (c) and in (b) it is Rs. 9.50 crores . . . .

**Mr. Chairman :** In (c) you have already said that the Television Corporation has made a budget provision of Rs. 12.15 crores. It is clear. Now, in (b) you just read out (b): This will be made up of Rs. 3.50 crores as loan by the Government. Now, his supplementary is: Whether this amount of Rs. 3.50 crores is included in this budget provision of Rs. 12.15 crores? Is that your supplementary?

**Malik Mohammad Akhtar :** Certainly, Sir, that is included.

**Mr. Farooq Ahmed Khan Leghari :** Sir, I may be allowed to explain again.

**Mr. Chairman :** Yes ?

**Mr. Farooq Ahmed Khan Leghari :** What I wanted to know was about the revenue of the Pakistan Television Corporation. During the year 1974-75, the total revenues of the Corporation were Rs. 4.39 crores. Now, during the year 1975-76 they anticipated revenues of Rs. 12.09 crores. My question is : Whether this loan of Rs. 3.50 crores has been included as part of the revenues of the Television Corporation or not ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, my answer is 'yes'.

سردار محمد اسلم : سپلیمنٹری سر ! جس طرح وزیر صاحب نے فرمایا تھا کہ  
12,09,86,000.00 The estimated revenue for 1975-76  
12.15 Total Expenditure for 1975-76  
- ہے

(b) کا سوال یہ تھا :

What is the amount to be spent on development projects.

اور جواب یہ ہے -

Rs. 4.50 crores. This will be made up of Rs. 3.50 crores as Government loan and Rs. 6 crores to be received through issue of debentures under Government guarantee.

اور اس کے سی پارٹ میں جو جواب دیا گیا ہے ، وہ یہ ہے کہ

The Pakistan Television Corporation has made a budget provision of Rs. 12.15 crores.

تو اس کا مقصد ہوا - کہ developmental پراجیکٹ پر 9 کروڑ 5 لاکھ  
خرچ ہو رہا ہے یہ نارسل اخراجات کے علاوہ ہے - کیا یہ درست ہے ؟

ملک محمد اختر : یہ بالکل درست ہے -

سردار محمد اسلم : تو جناب ! اگر 9 کروڑ 5 لاکھ روپے جو یہ development  
پراجیکٹ یہ normal expenditure جو بارہ کروڑ پندرہ لاکھ کے علاوہ ہو رہا ہے ،  
اس کی total expected revenue for 1976 کا 18.15 کروڑ بتلایا - - - -

**Malik Mohammad Akhtar :** I am sorry, my friend has misunderstood me. The total budgeted expenditure is 12.15 crores and the development projects are part of that which comes to Rs. 9.50 crores. The rest may be salaries and other expenditure. So, there is no provision about it. We have got two items : one is of the development projects and the second is that of the overall expenditure. In the Budget the overall expenditure is Rs. 12.95 crores whereas the developmental expenditure is Rs. 9.50. crores.

**Sardar Mohammad Aslam :** I agree, Sir !

جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن شاید ان کو کارپوریشن کی  
طرف سے جو جوابات ملے ہیں وہ clear نہیں ہیں کیونکہ دونوں سوالات بالکل  
علیحدہ علیحدہ اور بڑے clear ہیں ، سوال کا پارٹ (b) کہتا ہے -

[Sardar Mohammad Aslam]

(b) the amount to be spent on development projects.

اس کا جواب انہوں نے دیا ہے ۹ کروڑ ۵۰ لاکھ روپے جس میں سے ۳ کروڑ ۸ لاکھ گورنمنٹ سے لون لینا ہے اور چھ کروڑ روپے گورنمنٹ سے گارنٹی debentures کے ذریعے لینا ہے N.L. سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے -

(c) the amount to be spent on the normal operation of Pakistan Television Corporation ?

تو نارمل آپریشن اور developmental پراجیکٹ دونوں علیحدہ علیحدہ کئے گئے - نارمل آپریشن پر انہوں نے بتلایا ہے ۱۲ کروڑ ۱۵ لاکھ اور project develop- mental پہ انہوں نے بتایا ۹ کروڑ ۵۰ لاکھ روپے اور ٹوٹل income جو ۱۹۷۵-۷۶ء کی انہوں نے بتائی ہے وہ ہے ۱۲ کروڑ ۱۵ لاکھ ۶۰ ہزار یہ ساڑھے ۹ کروڑ آمدنی میں نہیں ہے جناب! یہی میں پوچھ رہا تھا -

ملک محمد اختر: جو میں نے گزارش کی ہے وہ درست ہے - normal کے لفظ سے confusion نہیں ہونا چاہئے وہاں بھی similar figure دی گئی ہے That is about that.

جناب چیئرمین: کبھی کبھی ان کو بھی ٹیلیویژن پر دکھا دیا کریں -

ملک محمد اختر: دو باتیں ہم نے کی ہیں - ایک تو ڈرامے کے بعد ہم نے جتنی سختی کی ہے My Friend will be happy کاش میرے دوست ڈپٹی چیئرمین آج موجود ہوتے تو کہتے میں ان کی غیر حاضری میں کوئی remark نہیں کرنا چاہتا ہوں - میں خوش ہوں کہ انہوں نے ایک بات point out کی اس بار سری لنکا کے دورے پر جو صحافی گئے وہ دونوں نئے گئے ہیں -

جناب چیئرمین: دونوں؟

ملک محمد اختر: نہیں یعنی

The old persons have not been repeated which was twice objected to in this House.

جس پر ہاؤس میں دو بار اعتراض کیا گیا -

جناب چیئرمین: آپ نئے لوگوں کو لے گئے تھے یہ تو اچھا اقدام ہے -

ملک محمد اختر: میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا جو محکمہ ہے جس سے میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس میں جتنے بھی آپ کے احکامات جاتے ہیں ان کی پوری کی پوری تابعداری ہوتی ہے - کوئٹہ کے نامہ نگاروں سے میں نے پوچھا کہ آپ پہلے تو نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے باہر نہیں گئے ہیں، ہم نے ان کے احکام کی تعمیل کی ہے -

These people had not gone earlier or repeatedly gone.

Mr. Chairman : All right.

قاضی صاحب آپ کا سپلیمنٹری ہے یا کیا ہے -

قاضی فیض الحق : سپلیمنٹری ہے - یہ جو بجٹ پروویژن 12.15 کروڑ ہے کیا اس میں proposed بوسٹریڈ کوئٹہ ٹیلیویژن سنٹر کے لیے جو چمن کے قریب لگایا جا رہا ہے رقم شامل ہے ؟ اور اس پہ کتنا خرچہ آئے گا ؟

ملک محمد اختر : وہ بجٹ پروویژن میں شامل ہوگا تو تب ہی لگایا جا رہا ہے اور یہ جو خرچ آئے گا یہ بتانے سے میں قاصر ہوں -

جناب چیئرمین : اب کیانی صاحب کی turn ہے -

جناب نرگس زمان خان کیانی : کیا وزیر صاحب یہ بتا سکیں گے کہ یہ جو ملک بھر میں تعلیم بالغاں کے لیے T.V. تقسیم کئے گئے ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہے ؟

جناب چیئرمین : اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں -

جناب نرگس زمان خان کیانی : کیا اس کی قیمت بتا سکیں گے ؟

ملک محمد اختر : الگ سوال کر دیں میں بڑی خوشی سے ان کے جوابات دوں گا -

Mr. Chairman : Yes, Sardar Sahib.

سردار محمد اسلم : ہم ملک صاحب کے بڑے مشکور ہیں - کہ انہوں نے بڑے سخت احکامات جاری کئے ہیں - اب ٹی - وی بہاری تہذیب ٹھیک کرنے میں مصروف ہے ، ہمیں ان کے جوابات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ، غالباً جو فگرز انہیں سپلائی کی گئی ہیں ان میں گریڈ دیکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 9½ کروڑ developments پر خرچ کر رہے ہیں اور 3½ کروڑ روپے سوال نمبر ۱۰۳ میں بتاتے ہیں اور اسٹاف کی pay وغیرہ پہ ۱۲ کروڑ ۱۵ لاکھ ، لیکن باقی اخراجات جو ہیں ان کا کیا کیا ہے یہ تو صرف pay جو انہوں نے دی ہے سوال نمبر ۱۰۳ کے پارٹ ای میں estimated expenditure on staff salaries for 1975-76 is (Rs. 3,09,74,400.00) تین کروڑ نو لاکھ ۷۴ ہزار چار سو تو باقی expenditures ٹرانسپورٹ اور بجلی پر یہ 9½ کروڑ آپس میں مل کر ۱۲ کروڑ ۱۶ لاکھ ہو جاتے ہیں تو اگر یہ اس کا حصہ ہے تو باقی اخراجات کہاں سے meet کرتے ہیں ؟

ملک محمد اختر : یہ بجٹ کا حصہ ہے - اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اگر زیادہ اخراجات ہوں تو سال کے آخر میں ایک سپلیمنٹری بجٹ لاتے ہیں - بجٹ کو revise کر کے حکومت سے گرانٹ مانگ لیتے ہیں اس وقت یہی محفوظ سمجھا گیا ہے کہ انہیں اس سے زیادہ رقم نہ دی جائے تا کہ یہ اتنے پاؤں پھیلائیں جتنی چادر ہو اور اگر پاؤں باہر نکل بھی گئے تو ہم اور چادر سپلائی کر دیں گے -

Mr. Chairman : It is all right. Yes, Mr. Khoso ?

**Mr. Afzal Khan Khoso :** The amount shown on the development expenditure is 9.50 crores, and would the Minister be pleased to give break up of these development projects ?

ملک محمد اختر : میں بہت ادب سے معافی چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس سے زیادہ اعداد تیار نہیں ہیں ۔

**Mr. Afzal Khan Khoso :** My question is relevant and very clear.

**Mr. Chairman :** He says that he has not got the answer ready in his hand. Probably he wants a fresh notice for that.

**Malik Mohammad Akhtar :** Yes, Sir, I want a notice.

**Mr. Afzal Khan Khoso :** This amount of 9.50 crores as pointed out by Kazi Faizullah includes Baluchistan booster. I would ask about the Shikarpur booster.

**Malik Mohammad Akhtar :** It should be presumed to have not been included. It is already under operation. Installation is being done.

**Mr. Chairman :** If you are not ready, and do not have a correct answer to give on the floor of the House, then you may ask for a notice.

**Malik Mohammad Akhtar :** I want notice.

**Mr. Afzal Khan Khoso :** Has this construction of booster been included in the development budget ?

**Malik Mohammad Akhtar :** I think, the honourable Member should know the answer. If he really does not know, then a fresh notice is required.

**Mr. Chairman :** That he does not know.

**Malik Mohammad Akhtar :** No, Sir, he must be knowing about it.

**Mr. Afzal Khan Khoso :** Sir, how it could be possible for me to know about it ?

قاضی فیض الحق : جناب والا ! تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں ۔

جناب چیئرمین : اب ان کو معافی نہیں ملے گی ؟

قاضی فیض الحق : جناب والا ! میں صرف اتنی بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ کوئٹہ ٹیلی ویژن اسٹیشن جب قائم کیا جا رہا تھا اس وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ یہ رنگین ٹیلی ویژن ہوگا، لیکن جب سینٹر قائم کیا گیا تو بلیک اینڈ وائٹ تھا ۔ اس سے شاید ان کی آمدنی پر بھی اثر پڑا ہوگا کیونکہ لوگوں نے کم فیس کے لائسنس خریدے ۔ چونکہ اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال کے اندر یہ رنگین ٹیلی ویژن کر دیے جائیں گے تو کیا وزیر صاحب بتائیں گے کہ واقعی کوئٹہ ٹیلی ویژن سینٹر کو رنگین کیا جا رہا ہے ؟

جناب چیئرمین : نوٹس -

ملک محمد اختر : میرے خیال میں یہ اس کے لیے ایک علیحدہ نوٹس دے دیں کیونکہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے تا کہ باقی جگہ بھی لوگ رنگین ٹیلی ویژن نہ خریدیں - جناب والا ! ویسے میرے علم میں ہے کہ اتنے رنگین ٹیلی ویژن نہیں آرہے ہیں - میں اپنے دوست سے درخواست کروں گا کہ ان کے پاس اوپن جنرل لائسنس ہے جب یہ اپنے رنگین ٹیلی ویژن منگوائیں تو میرے لیے بھی ایک منگوا دیں -

Mr. Chairman : Well, the gentleman at your back, Mr. Masud Ahmed Khan, is already here.

Mr. Masud Ahmad Khan : I would like to know the break-up of the developed projects, not the break-up of 9.80 crores ?

Malik Mohammad Akhtar : I am sorry I have already made an humble submission that a fresh notice may be given in that respect.

Mr. Chairman : I think, there should be an end to it.

سردار محمد اسلم : جناب والا ! ایک آخری گزارش ہے -

جناب چیئرمین : آخری ہو -

سردار محمد اسلم : اگر اجازت ہو -

جناب چیئرمین : اجازت تو ہے مگر آخری ہو -

سردار محمد اسلم : یہ سپلیمنٹری سوال تو نہیں ہے میں تو صرف ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ٹھنڈیانی میں بوسٹر شروع ہونے والا ہے کیا اس کے افتتاح کے لیے تشریف لے جائیں گے کیونکہ وہاں چھ فٹ ، ساڑھے پانچ سے ساڑھے سات فٹ تک برف ہے - کیا یہ تشریف لے جائیں گے ؟

جناب چیئرمین : چھ فٹ تو ان کا قد بھی نہیں ہے -

سردار محمد اسلم : ان کی گرمی سے وہ برف پگھل جائے گی -

ملک محمد اختر : جناب والا ! میں عرض کروں گا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں

ہے -

جناب نعمت اللہ خان شنواری : جناب والا ! نماز کا وقت ہو گیا ہے -

جناب چیئرمین : آپ کی خواہش ہے کہ نماز کے لیے وقفہ کیا جائے - وقفہ کے بعد دوبارہ جلدی کورم پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اس سیشن کا آخری دن ہے اور آج ہی کام ختم کرنا ہے - تو دوبارہ کس وقت میٹ کریں ؟

**Mr. Chairman :** Now we meet....

**Voices :** At 5.30, Sir.

**Mr. Chairman :** All right. We break up for prayers to meet at 5.30 p. m.

*The Senate adjourned to meet again at 5.30 p. m. after Maghreb Prayers.*

*The Senate reassembled after Maghreb prayers. Mr. Chairman in the Chair.*

**Mr. Chairman :** Questions are over and now we take up legislative business. Malik Mohammad Akhtar.

### THE ANTIQUITIES BILL, 1975

**Malik Mohammad Akhtar :** On behalf of the Minister concerned, I beg to move :

“That the requirement of sub-rule (2) of rule 83 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1973, in regard to the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], as reported by the Standing Committee be dispensed with.”

**Mr. Chairman :** Motion moved is :

“That the requirement of sub-rule (2) of rule 83 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1973, in regard to the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], as reported by the Standing Committee, be dispensed with.”

**Mr. Chairman :** Any objection or opposition ?

**Voices :** No.

**Mr. Chairman :** Then, I put the question.

**The question is :**

“That the requirement of sub-rule (2) of rule 83 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the

Senate, 1973, in regard to the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], as reported by the Standing Committee, be dispensed with."

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Item No. 4.

**Malik Mohammad Akhtar :** I beg to move :

"That the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975] as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once."

**Mr. Chairman :** Any objection or opposition ?

**Voices :** No.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I would like to make, with the permission of the Chair and the honourable Members, a short statement. The Act was introduced in 1968 but certain difficulties were discovered during its execution in respect of preservation of monuments and other precious items. Now, Sir, under the present Constitution, item 37 of the Concurrent Legislative List includes such items but it has been provided at the same time that in order to make that law applicable, it shall be provided in the Ordinance. So, Sir, we took the advantage of re-enacting and repealing the old law in conformity with the Constitution. That was the prior and first consideration. Then, Sir, we have studied the Egyptian law and the UNESCO recommendations relating to the preservation of cultural heritage. The Ordinance was accordingly promulgated. In section 2 we have given some explanation of the term "antiquity" and made it more comprehensive. Earlier only it could be applicable to the monuments which were of the periods earlier than May, 1957. Naturally, after 1957 we had so many monuments and I need not stress on this point. There are so many historical monuments: sculptures, particularly our own cultural monuments which are the creation of Pakistan and other valuable collections which could be made. So, Sir, in section 16 we have provided for compulsory acquisition of movable antiquities. Earlier it was not provided. In section 19 we have provided for prohibition of destruction and damage of such articles. In section 20 we have provided for restriction on repairs, renovation etc. The persons in possession of these valuables get them either repaired by material which is defective or get them renovated in a way to suit their own purpose. That certainly damages the very outlook of those monuments. It rather defeats the object for which the monuments are preserved. In section 21 the owners can be directed to preserve any article which is of historical importance or value and is in his possession. Similarly in section 22 it has been provided that the Government can make development schemes. Supposing at certain places like Taxila etc. Where there are signs of ancient civilisation. Then, Sir, section 27 deals with traffic in movable antiquities. Some restrictions have been imposed on the valuable movable articles which is of historical importance.

Then, Sir, powers to arrest without warrant have been provided for in this Bill. This is important. A large number of monuments and statues

[Malik Mohammad Akhtar]

are located at different places and thefts are not unusual. Unauthorised dealings take place there. The people may steal ; they may damage and in order to prohibit all such actions which are detrimental to the protection and preservation of these valuable items, we have provided certain amount of punishment that was necessary. The rest of the provisions of the Ordinance are the same as were enacted in the Antiquities Act of 1968 which we are repealing. So, I consider that this is a useful measure. All the things have got to be preserved, particularly the monuments. We have got a history which intervenes between us by a foreign rule for about two hundred years and most of our valuable historical documents and all other articles were stolen, or removed from the country. Whatsoever is left, it is now necessary to preserve so that our culture and traditions are reflected by these historical documents.

**Mian Masud Ahmed :** I agree with the honourable Minister of State for Parliamentary Affairs who was speaking on behalf of the Education Minister that certain provisions which have been added to the present Bill were not there in the original Act of 1968. He has referred to section 16, but I will add more that with regard to the acquisition of movable antiquities that adequate compensation has been assured to the owner. The procedure for compensating the owner is comprehensive and exhaustive. I would just read :

“(a) where the amount of compensation can be fixed by agreement, it shall be paid in accordance with such agreement ; (b) where there is no such agreement then the Federal Government shall appoint an arbitrator a person who has been, or is qualified for appointment as, a Judge of a High Court ; (c) at the commencement of the proceedings before the arbitrator, the Federal Government and the person to be compensated shall state what in their respective opinions is a fair amount of compensation ; (e) an appeal shall lie to the High Court . . . . .”

What I mean to say is this that the incentive has been given to the owner to part with the inequities which are of cultural, historical and archaeological importance. So, I support the Bill whole-heartedly because it has been mentioned by the honourable Minister that we have to preserve antiquities to preserve the old civilization. I don't know, under this Act whether we will be able to preserve our written treasures so I am fully sanguine that we will have now treasure of the type we have at Taxila. Moon-jo-Daro, Uch Sharif and Bahawalpur, with these remarks I close my speech.

**Mr. Chairman :** Thank you. Any other gentleman. Yes, Mr. Kiani Sahib

جناب نرگس زمان خان کیانی : جناب چیئرمین ! وزیر موصوف نے اپنی تقریر میں ٹیکسلا کا بھی ذکر کیا ہے میں خود بھی اس انتظار میں تھا - کہ ٹیکسلا کے گاؤں کی طرف ان کی توجہ مبذول کراؤں جو ٹیکسلا کے گردونواح میں واقع ہیں ، وہاں سے کافی تعداد میں آثار قدیمہ کے بت نکل رہے ہیں ، کچھ لوگ ان بتوں کو نکال کر فروخت کر کے راتوں رات امیر بنتا چاہتے ہیں اور بن بھی چکے ہیں - میں اس

ضمن میں اس بل کی support کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں۔ کہ ٹیکسلا کے وہ گاؤں جہاں سے ان گنت بت نکل رہے ہیں وہ اپنے قبضے میں لیں اور کوئی اس قسم کا بندوبست کریں کہ وہ چوری نہ کئے جا سکیں۔ میں ان لوگوں کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ وہ بت شکن ہونے کی بجائے بت فروش ہو رہے ہیں۔

**Mr. Chairman :** Thank you. Yes. Mr, Khoso ?

**Mr. Afzal Khan Khoso :** Mr. Chairman Sir, the main aim of this Bill is to preserve and to protect our antiquities. The honourable Minister has made a statement about this. Actually, Sir, such laws are existing in foreign countries and in so many countries as well where one has got to make sure that the past is protected, or historical heritage and culture is protected. I have done a bit travelling and I have seen that at custom barriers it is written that taking away of antiquities is punishable and the punishment is petty severer, Sir. So, I feel that this Bill is quite opportune, and I wholly support it.

**Mr. Chairman :** Thank you very much. Now, should I put the question ?

You don't want to reply, of course, it is a simple Bill supported by all sections of the House. Now, I put the question before the House.

The question before the House is :

That the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once."

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Now, we start with the second reading of the Bill. I think, no amendment has been tabled by any of the honourable Members of the House. So, under the rules and as the practice is, we can put all the clauses together when there is no amendment particularly in view of the fact that there is no objection to any of the provision of the Bill. So, I put all the clauses together.

Now, the question before the House is :

"That clauses 2 to 37 (both inclusive) form part of the Bill."

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** All the Clauses from 2 to 37 form part of the Bill.

Now, there is another Clause 38—Repeal.

The question before the House is :

"That Clause 38—Repeal-form part of the Bill."

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Clause 38—Repeal also forms part of the Bill.

Now, the last question.

The question before the House is :

“That Preamble, Title and Clause 1 form part of the Bill.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** The Preamble, Title and clause 1 form part of the Bill.

Now, you can safely take up Item No. 5, the last.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir I beg to move :

“That the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], be passed.”

**Mr. Chairman :** The motion made is :

“That the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], be passed.”

Any gentleman wishing to say anything ? Would you like to add to what you have said ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Only one word, Sir, and it is that I have looked into the definition under clause 2 and its sub-clause 4. That would meet the purpose. I was wondering whether we have made that omission. It says :

“any other object or class of such objects declared by the Federal Government by notification in the official Gazette, to be an antiquity for the purposes of this Act.”

So, Sir, we can declare, whatsoever my friend was saying, that there is no omission and I am grateful to him that he has pointed it out.

**Mr. Chairman :** So, it is clear. Should I put the question now ?

**Voices :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** Now, the question before the House is :

“That the Bill to repeal and re-enact the law relating to the preservation and protection of antiquities [The Antiquities Bill, 1975], be passed.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** The Bill stands passed unanimously. Now, we move to next item No. 6—resolution No. 6.

RESOLUTION RE : COMPULSORY EDUCATION  
UPTO FIFTH STANDARD

**Mr. Chairman :** Well, this has already been moved and it was under discussion when the House was adjourned.

So, should we continue this ? Is the mover of the resolution present in the House ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, it can be taken up and discussed under rules but we may have a different course if the honourable mover is here. We can just request him that we have been apprised by the sentiments of the House.

So, we can put it off until he comes, and wants re-commencement of discussion in the next session.

**Mr. Chairman :** Do you want it to be postponed ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Not to be taken up today, Sir. It may be deferred and then whatsoever is the procedure under the rules will be followed. If we can bring it on the agenda, we will certainly bring it, and if we cannot, then we will request him to make a fresh notice.

**Mr. Chairman :** It was formally moved and was still under discussion in the House, so today it was set down for further discussion. The honourable Member is not here. Now it is up to you. If you want it to be postponed or to be deferred to some other day, it will, of course go to the next session. Today is the last day of this calendar year, it will, naturally, have to be deferred to some other session.

**Malik Mohammad Akhtar :** It may be, Sir, I make a request.

**Mr. Chairman :** All right. Is that the wish of the House that it should stand deferred ?

**Voices :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** So, it stands deferred. Then, we take up the next item—discussion on resolution No. 7.

RESOLUTION RE : SHIFTING OF TRANSIT GODOWNS FROM  
PESHAWAR TO LANDIKOTAL RAILWAY STATION

**Mr. Chairman :** Was this moved ?

**Malik Mohammad Akhtar :** It has been moved.

**Mr. Chairman :** This is by Malik Mohammad Sharif. Yes, what is your reaction ? Do you want to speak on it ?

Malik Mohammad Sharif : Yes, Sir.

(interruptions)

Malik Mohammad Akhtar : It had been already moved.

ملک محمد شریف : جناب والا ! ہ دسمبر کو یہ میں نے ہاؤس میں منو کیا ۔

Mr. Chairman : You can start your speech. It was already moved. You can speak on it.

ملک محمد شریف : جناب والا ! ہ دسمبر کو میں نے اس معزز ہاؤس میں یہ ریزولیشن پیش کیا تھا لیکن متعلقہ وزیر صاحب کے تشریف نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر بحث نہ ہو سکی ۔ آج میں اپنے اس ریزولیشن کا پس منظر اس معزز ہاؤس کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو ۔

جناب والا ! جب پشاور شہر کو ریلوے لائن سے منسلک کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ پشاور ریلوے اسٹیشن تقریباً پشاور کی حدود سے دو میل کے فاصلے پر تھا اور ایک سنسان ویرانہ میں یہ اسٹیشن قائم کیا گیا تھا ۔ اس وقت پشاور شہر کی آبادی تقریباً پینتیس ہزار کے لگ بھگ تھی ۔ آج پشاور میں آبادی تقریباً تین لاکھ کے قریب ہے اور یہ پشاور اسٹیشن اس وقت شہر کے بالکل مرکز میں آچکا ہے اور اس وقت سے جب کہ پشاور کو ریلوے لائن سے ملایا جا رہا تھا برٹش گورنمنٹ نے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ افغانستان اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جتنا مال بھی ہے وہ براستہ انڈیا درآمد برآمد کر سکتا تھا اور اس بات کو تقریباً اسی برس کا عرصہ گزر چکا ہے ۔ اگر اس وقت افغانستان کی ڈیمانڈ دس ویگن روزانہ تھی تو آج اس کی ڈیمانڈ ایک سو پچاس ویگن روزانہ ہے اسی لحاظ سے ہماری آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے ۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے پاس وسائل ہیں ، جب ہمارے پاس نعم البدل دوسرے اسٹیشن ہیں تو میں نے یہ تجویز کیا تھا کہ بجائے پشاور اسٹیشن کے یہ مال سیدھا کراچی سے لنڈی کوتل ریلوے اسٹیشن کو بھیج دیا جائے ۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نئی اسٹیشن نہیں کرنی پڑتی کوئی نیا ریلوے اسٹیشن نہیں بنانا پڑتا اور کوئی نئی ریلوے لائن نہیں بچھانی پڑتی ۔ پہلے ہی وہاں اسٹیشن ہے ۔ گاڑی وہاں اس لائن پر چلتی ہے ۔ ہر دوسرے دن وہاں پر گاڑی کی آمد و رفت ہوتی ہی ہے ۔ اس سے افغانستان گورنمنٹ کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ اس کا پینتیس میل کا فاصلہ کم ہو جائے گا کیونکہ تورخم سے پشاور تک ۸۴ میل کا فاصلہ بنتا ہے تو لنڈی کوتل جو ہے وہ پشاور سے پینتیس میل کے فاصلہ پر ہے اور ہم ریلوے کے اس انتظام سے اس کو پینتیس میل بارڈر کے نزدیک کر دیں گے تو اس پر افغانستان گورنمنٹ کو کوئی ابجکشن نہیں ہونا چاہئے ۔

اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب افغانستان کے ٹرک آتے ہیں ان میں اتنے ہیوی ویلکوز آتے ہیں کہ ایک وقت چالیس چالیس ٹن بوجھ لادھے ہوئے ہوتے ہیں ۔ اگر وہ دو گھنٹے کے لیے ان سڑکوں پر کھڑے رہیں تو میرا اندازہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے جو پاکستان میں سڑکیں بنائی ہیں ان میں چھ چھ ایچ گڑھے پڑ جاتے ہیں اور اس میں جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے گندگی پیدا ہو جاتی ہے ۔ اخباروں میں ہر روز آتا ہے کہ پشاور شہر کی صفائی نہیں ہو رہی ہے ۔ میں نے

اس معزز ایوان میں یہ ریزولوشن اس لیے پیش کیا ہے کہ ہمیں اور ہمارے شہر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم افغانستان گورنمنٹ کو انٹرنیشنل لاء کے مطابق - - -

**Malik Mohammad Akhtar :** I am sorry to interrupt. Sir, he can explain his own difficulties but let him not be an adviser to the Pakistan Government on foreign affairs. Let him confine himself to the local difficulties.

**ملک محمد شریف :** میں تو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو ڈیزل اور پٹرول مہیا کرنا ہوتا ہے ہم تقریباً ایک ٹرک کو ۸۴ میل کے لیے ڈیزل اور پٹرول مہیا کرتے ہیں۔ وہ پٹرول ہمیں زرمبادلہ سے ملتا ہے تو اس سے یہ مقصد ہوا کہ ہم اس کو صرف بارہ میل کے لیے مہیا کریں گے۔ تورخم لنڈی کوتل تک سات میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ سات میل آنے کے لیے اور سات میل جانے کے لیے تو ہمیں اس سے بہت بچت ہوگی اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں یہ ویگنیں سامان اتارتی ہیں وہاں ہماری فوڈ گرین کی منڈیاں ہیں وہاں فریڈلائزر کی منڈیاں ہیں اور یہ اشیاء افغانستان کے لیے باہر سے آتی ہیں تو وہاں سے ہمارے ملک کا جو مال ہے اسی کانوائے میں سیل ہو کر سمگل ہوتا ہے تقریباً پانچ اور دس فیصد کے حساب سے ہمارا مال سمگل ہوتا ہے ایسے شریفانہ طریقے سے سمگل ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ایجنکشن نہیں کر سکتا کیونکہ پشاور کی کسٹم پوسٹ اس کو سیل کر دیتی ہے تورخم تک اس کو کوئی چیک نہیں کر سکتا اور سیدھے وہ افغانستان چلے جاتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اب اس چیز کی ضرورت کیا ہے جب ہمارا اپنا کام نہیں ہو سکتا تو بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ بجائے پشاور کے ان کو لنڈی کوتل میں مال دے دیا جائے۔ اس سے ہمیں اس مسئلے سے نجات ملے گی۔ یہ تھی ہماری التجا جو میں نے اس معزز ایوان کے سامنے پیش کر دی ہے اب یہ ان کی مرضی ہے کہ اس ریزولوشن سے جس طرح کا چاہیں سلوک کریں۔

**Mr. Chairman :** Thank you, Yes, Shainwari Sahib ?

**جناب نعمت اللہ خان شنواری :** جناب چیئرمین ! میں سمجھتا ہوں کہ ملک شریف کا پیش کردہ ریزولوشن بہت ضروری ریزولوشن ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ صرف متعلقہ منسٹر صاحب کی موجودگی بلکہ فنانس منسٹر صاحب کی موجودگی بھی ضروری تھی کسٹم کا معاملہ ہے اور جس طرح پانچ اور دس فی صد اسمگلنگ کے متعلق ملک شریف صاحب نے اشارہ کیا ہے تو چونکہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمگلنگ افغانستان کو سیل شدہ مال کی صورت میں پانچ اور دس فی صد نہیں بلکہ پچیس اور تیس فی صد تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کسٹم انسپیکٹر کو سو روپیہ دے دیں تو وہ آپ کے ٹرک کو سیل کر دیتا ہے اور اس میں آدھے سے زیادہ افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا مال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں مزید

[Mr. Naimatullah Khan Shinwari]

اضافہ میں یہ کروں گا کہ بجائے لنڈی کوتل کے تورخم تک یہ مال سیدھا بائی ٹرین جا سکتا ہے۔ تورخم تک ٹرین ہے تورخم سے چار پانچ فرلانگ کے فاصلے پر پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے۔ انگریزوں کے زمانے کا ابھی تک ریلوے اسٹیشن ہے اور ابھی تک ریلوے کے عملہ کے لیے وہاں کوارٹر ہیں اور اچھی حالت میں ہیں ان کے لیے ابھی تک ریلوے کا سالانہ مرمت کا خرچہ ہے تو میں سمجھتا ہوں جب ریلوے اس کا پہلے سے مرمت تک کا خرچہ ہر سال برداشت کر رہی ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ لنڈی کوتل پر بھی مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن جس طرح ملک شریف صاحب نے فرمایا تو میرے خیال میں ہمیں ان کو بارہ میل یا سات میل کے لیے بھی پٹرول دینے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے علاوہ قبائلیوں کو اس سے فائدہ بھی ہو ہو جائے گا۔ پشاور کے شہریوں کو جو ٹریفک کے بہت زیادہ رش کے متعلق جو دیرینہ مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ افغانستان کے ٹرکوں سے، پشاور کو آرام ہو جائے گا اور ہمارے ٹرانسپورٹروں کو کچھ نہ کچھ یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ بھی پشاور آنے کے بجائے لنڈی کوتل سے واپس افغانستان کے لیے مال لادھا کریں گے اور کابل سے مال لاد کر وہ آتے ہیں اور وہاں تورخم ریلوے کے حوالے کر دیں گے تیسرا فائدہ یہ ہو گا کہ پشاور میں جو ہمارے ڈیلنگ ایجنٹ کام کر رہے ہیں وہ لنڈی کوتل یا تورخم میں اپنے گھروں کے قریب اپنے دفتر کھول لیں گے اور سب سے بڑا فائدہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو اور ہماری حکومت کو پہنچے گا چاہے اس پر ہمارے منسٹر انچارج یا دوسرے منسٹر صاحب کو اعتراض بھی ہو۔ لیکن حقیقتاً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو کروڑوں روپے کا فائدہ اس چیز سے ہو گا۔ اس سے پہلے بھی اس پر غور ہو چکا ہے اور اگر ملک صاحب یا کوئی اور منسٹر سمجھتے ہوں کہ افغانستان کو اس پر اعتراض ہو گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پر خوشی ہو گی کیونکہ یہ ان کا بھی مطالبہ ہے۔ پہلے اس پر غور ہو چکا ہے۔ ریلوے اس کے لیے سروے کر چکی ہے تورخم اور لنڈی کوتل کے درمیان پلوں کی مرمت بھی ایک مرتبہ ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ آج سے پانچ چھ سال پہلے موجودہ حکومت سے پہلے ہو چکا تھا کہ ریلوے لائن کی توسیع ہو گی اور بعد میں پھر افغانستان اور حکومت پاکستان کی امداد سے جلال آباد تک ایک دوسری ریلوے لائن بھی بچھائی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفید ریزولیشن ہے۔ اگر منسٹر صاحب اگلے اجلاس میں موقع دیں تو ہم مزید روشنی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں حکومت کے نکتہ نظر سے بھی فائدہ مند چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ملک صاحب اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔

Mr. Chairman : Yes, Sardar Mohammad Aslam.

سردار محمد اسلم : جناب والا! یہ کوئی ایسی sensitive بات نہیں ہے۔ ملک شریف صاحب کا ریزولیشن جو بذات خود انہوں نے لکھا وہ تو innocent تھا لیکن اس کے arguments دیتے ہوئے انہوں نے اس کا scope اتنا بڑھا دیا ہے کہ چونکہ اسمگنگ ہو رہی ہے اس لیے اسٹیشن کو وہاں سے اڑا دو۔ جناب یہ تو کوئی جواز نہیں کہ اسمگنگ کو بند کریں۔ ہاں پشاور کے لوگوں کو جو

تکالیف ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یا اس کے لیے گوداؤن یا ٹرانزٹ گوداؤن یا ٹرانزٹ کیمپ جو بنا ہوا ہے اس کو شفٹ کرنا۔ پاکستان ریلوے۔ پاکستان گورنمنٹ یا جن لوگوں کا عمل ہے کہ ان کو کہاں پر feasible ہے یہ دونوں پارٹیاں پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان ریلوے وہ آپس میں طے کر کے جہاں پر ان کو feasible ہو، جہاں پر ان کو مفید ثابت ہو وہ پہنچا سکتے ہیں تو جناب اس کے بارے میں میری اپنی یہی suggestion ہے۔ میں ملک صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا دونوں طرف سے ملک ہیں۔ منسٹر انچارج بھی ملک ہیں اور ادھر بھی ملک صاحب بیٹھے ہیں کہ ہاؤس اس ریزولیشن کو consider نہ کرے کیونکہ جناب! یہ Precedent بن جائے گا کہ فلاں جگہ اسٹیشن پر بوری پڑی ہے اس کے متعلق ہاؤس ریزولیشن پاس کرتا ہے کہ اس کو اٹھا دیا جائے۔ یا فلاں گلی میں صفائی نہیں ہوئی ہے اور ہاؤس ریزولیشن پاس کرتا ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ ملک صاحب، ملک اختر صاحب سے جو منسٹر متعلقہ ہیں ان کی وزارت سے negotiation کر کے شفٹ کروا دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ ہاؤس اس کو consider کرے کیونکہ لوکل چیز ہے ایک ریلوے اسٹیشن کے گوداؤن کو شفٹ کرنا ہے دوسرے گوداؤن تک اس لیے mover اور minister concerned آپس میں negotiate کر کے جو جگہ بھی feasible ہو اور جو مناسب فیصلہ ہو وہ کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہاؤس کی نسبت میں نے یہ عرض کرنا تھا۔

ملک محمد اختر : جناب چیئرمین !

I am sorry, Sir, I would like to refer to the Pak-Afghan Agreement of 1965.

Mr. Chairman : I don't follow. First, you said Mr. Chairman, and then you said sorry.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I was going to make an Urdu speech. Then I thought that I should give quotations, Sir, facilities extended to Afghanistan in transit traffic at Peshawar have been provided in accordance with Pak-Afghan Agreement of 1965, and any revision of the facilities provided, including shifting of the transit godowns from Peshawar to Landikotal, are to be done by mutual agreement. We have noted the relevant complaints, difficulties and problems which are being created locally. We will try to remove those difficulties, and with this I will make a humble request to the mover, and he had conceded to it, that he would withdraw the resolution. As far as the local difficulties are concerned, even without shifting the station we can remove them, and I again request him that he should not press the resolution and rather withdraw it.

Mr. Chairman : Yes, Malik Sharif !

ملک محمد شریف : جناب والا ! جیسا کہ سردار محمد اسلم صاحب نے تجویز کیا ہے کہ ملک اختر صاحب کی معرفت سے ہم ریلوے منسٹر کے ساتھ بات کر کے اس مسئلہ کو حل کر لیں۔ اس کی اگر مجھے پوری طرح سے یقین دہانی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ میں ریزولیشن کو withdraw کر لوں گا۔

**Malik Mohammad Akhtar.** I am sorry. I can't as a result of discussion on a resolution bind myself to a point which is between the two Governments and nor the honourable Senator, who is a very wise man, should press it. As far as the local difficulties are concerned, we are surely there to look into them, and I again request him to withdraw it. I consider that this resolution should not have been even on the agenda, and I again request him that since sufficient debate has taken place on this he should not insist upon it. I have shown him my papers, and after seeing those he made a promise that he would withdraw it. Now, he wants a commitment, which I am unable to make. If he desires to have such a commitment, then I consider he will have to go to higher authorities. I am not prepared to make and I am not authorised to make any such commitment in respect of foreign policy.

**Mr. Niamatullah Shinwari :** Mr. Chairman, I am so sorry. The honourable Minister has said that this is between the two Governments. I am so sorry. Landikotal is a part of Pakistan. This is not between the two Governments.

**Malik Mohammad Akhtar :** It is his own interpretation. There is an Agreement of 1965. I have told him that.

**Mr. Chairman :** Will you please resume your seat? Mr. Shinwari, he has not said that railway station is a matter between two Governments.

انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرانزٹ گوڈاؤن جو پشاور شہر یا کینٹونمنٹ ایریا میں بنایا گیا ہے یہ ۱۸۶۵ کے معاہدے کے تحت کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو شفٹ کرنا ہے۔ دوسری جگہ لے جانا ہے۔ بند کرنا ہے۔ کھولنا ہے۔ یا کچھ کرنا ہے تو یہ دو حکومتوں کی آپس میں کوئی بات ہوگی فارن آفس والوں کے ذریعے سے دونوں حکومتوں کے معاہدے کے تحت یہاں پر ٹرانزٹ گوڈاؤن پشاور کینٹونمنٹ ایریا میں بنایا گیا تھا ان کا مطلب یہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ریلوے سٹیشن افغانستان کو دے رہے ہیں۔

جناب نعمت اللہ خان شنواری : وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ۱۸۶۵ -

**Mr. Chairman :** That is a different matter. That is not a very important point. He never suggested that. Malik Sahib, what is your reaction to the suggestion made by Malik Akhtar ?

ملک محمد شریف : جناب چیئرمین ! میں وزیر صاحب کی یقین دہانی پر یہ resolution withdraw کرتا ہوں۔

**Mr. Chairman :** All right. I will ask the House.

قاضی فیض الحق : آپ withdraw نہیں کر سکتے۔

**Mr. Chairman :** He wants to withdraw. He is not withdrawing. He wants to withdraw. So, it is for the House to decide.

اب آپ نے ملک صاحب کی بات سن لی وہ یہ ریزولیشن withdraw کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو اجازت دیں گے تو وہ withdraw کر لیں گے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں ایوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی یہ قرار داد واپس لے لیں ؟

**Sardar Mohammad Aslam :** Sir, let him make a motion first for its withdrawal.

جناب چیئرمین : وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ

ہے کہ

Let us economise time. Is he allowed to withdraw the resolution ?

**Voice :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** All right. Permission to withdrawal is granted. The resolution stands withdrawn. Now, we take up resolution No. 8.

RESOLUTION RE : STRENGTHENING OF RESEARCH IN  
DEVELOPMENT ASPECTS OF THE ARID ZONES  
AND BARANI AREAS

**Mr. Chairman :** This was moved last time. Mr. Leghari, it was moved by you.

**Mr. Farooq Ahmed Khan Leghari :** Yes, Sir, it was moved by me on the 5th of December.

**Mr. Chairman :** Now, you can start with your speech.

**Mr. Farooq Ahmed Khan Leghari :** Sir, the Minister concerned is not present and I would like him to be present when I make my speech, So, I would request that this be deferred till the next Private Members' Day.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, the Minister has sent a message requesting the honourable mover to get his resolutions deferred.

**Mr. Chairman :** Should this resolution be deferred to some other sitting ? Do you agree to the deferment ?

**Voices :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** All right, it stands deferred. Now, we take up No. 9.

RESOLUTION RE : TOP PRIORITY BY WAPDA TO  
CONTROL WATER-LOGGING AND SALINITY  
IN DISTRICT JACOBABAD

**Mr. Chairman :** It was also moved by Mr. Khoso. Yes, Mr. Khoso, you had moved this resolution.

**Mr. Afzal Khan Khoso :** Sir, I had moved this resolution but my problem is the same.

**Mr. Chairman :** The Minister concerned is not present and you wanted it to be taken up in his presence.

**Mr. Afzal Khan Khoso :** Yes, Sir, because we would like the Minister to know our point of view and we also like to know his point of view.

**Mr. Chairman :** Yesterday, there was an understanding that if the Minister concerned is not here, then you can ask for postponement.

**Mr. Afzal Khan Khoso :** Yes, Sir, I will request for the postponement of this resolution.

**Mr. Chairman :** So, this resolution also stands deferred. Now, we take up resolution No. 10.

---

**RESOLUTION RE : COMMISSION TO STUDY FEASIBILITY  
OF UTILIZATION OF RUN-OFF WATER IN  
PLAINS AND VALLEYS**

**Mr. Chairman :** Yes, Mr. Leghari it is yours.

**Mr. Farooq Ahmed Khan Leghari :** It is the same case. Sir, I would request for deferment.

**Mr. Chairman :** Should the discussion on this resolution be deferred ?

**Voices :** Yes. Sir.

**Mr. Chairman :** All right. This also stands deferred. Now, we take up resolution No. 11.

---

**RESOLUTION RE : EXTENSIVE STUDY TO DETERMINE  
RELATIVE BACKWARDNESS OF EACH DISTRICT  
FOR REMOVAL OF DISPARITIES**

**Mr. Chairman :** It is also in your name. The same difficulty ?

**Mr. Farooq Ahmed Khan Leghari :** Again, the same difficulty, Sir.

**Mr. Chairman :** The Minister concerned is not here. All right. This also stands deferred. The last resolution is No. 12.

---

**RESOLUTION RE : REMOVAL OF ALL CUSTOMS-BARRIERS  
WITHIN DISTRICTS OF THE PROVINCE OF BALUCHISTAN**

**Mr. Chairman :** Qazi Sahib, it is in your name. It was never moved.

**Qazi Faizul Haq :** It was never moved, Sir.

**Mr. Chairman :** You move it.

**Qazi Faizul Haq :** Sir, I beg to move the following resolution :

“That the Senate is of the opinion that the Government do remove forthwith all custom-barriers within the districts of the Province of Baluchistan, especially on the RCD Highway between Taftan (Chagan District) and Mochka (Lasbella District) ; and on the National

Highway between Jhatpat (Nasirabad District) ; between Quetta-Fort-Sandeman-Golkach (Zhob District) ; and Fortsandeman and Rakhni (Loralai District).”

**Mr. Chairman :** Is this Rakri or Rakhni ?

**Qazi Faizul Haq :** This is ‘Rakhni’.

**Mr. Chairman :** Motion moved.

“The Senate is of the opinion that the Government do remove forthwith all customs barriers within the districts of the Province of Baluchistan especially on the RCD Highway between Taftan (Chagai District) and Mochka (Lasbella District) ; and on the National Highway between Jhatpat (Nasirabad District) ; between Quetta-Fort Sandeman-Golkach (Zhob District) ; and FORTSANDEMAN—and Rakhni (Loralai District).”

**Mr. Chairman :** Yes, Qazi Faizul Haque.

**Qazi Faizul Haque :** Sir, the Minister is not here.

**Malik Mohammad Akhtar :** We can take it up the next time and defer it as desired. We will take up all these resolutions in the next session.

**Mr. Chairman :** One is withdrawn. The rest are deferred. There is no other item left in the agenda.

#### ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF THE SENATE DURING THE CLOSING YEAR OF 1975

**Rao Abdus Sattar (Leader of the House) :** Mr. Chairman, Sir, on behalf of the members this august House and myself I convey the feelings that we are really thankful to you for conducting the proceedings of this House very smoothly. I am sure that without your co-operation and able guidance, we would not have been able to finish our work in the Senate. I am also thankful to the honourable Members of the Senate for their full co-operation and active participation in the proceedings.

**Mr. Chairman :** I regret to say that the role played by the Opposition is not appreciable. They are not fulfilling their commitments or duties as laid down by the Constitution. I am really thankful to the members of the staff of the Senate Secretariat for their full co-operation.

At the end, I wish a happy new year to all Members and we are specially thankful to Malik Mohammad Akhtar, Minister of State for Parliamentary Affairs, for his continuous presence in the House and full devotion to the work of Senate.

**Qazi Faizul Haque :** Point of order. Sir, tonight is Christmas night, not a new year.

**Malik Mohammad Akhtar (Minister of State for Parliamentary Affairs) :** Sir, I am grateful to the Chair as well as Members of this august House for having fulfilled the constitutional requirement of 90 days’ sittings which

[Malik Mohammad Akhtar]

included the week-ends according to the Fourth Constitutional Amendment. Sir, our performance in the House when the Opposition was here and even in their absence has been excellent. All the Members have taken keen interest. I should say they have kept up the traditions and conventions of the Upper House. I really feel that. With small experience of legislation that I have got, I can confidently say that we are proud of our both Houses, and the Senate has kept up not only its traditions and conventions of all the modern Senates of the countries where there are bicameral Houses but we have also been polite and cheerful in understanding each other's points of view. The absence of Opposition was, no doubt, felt and it is our earnest desire that they may join us at the earliest opportunity. I congratulate the learned Members of the People's party, the allied Parties and other independent Members who have continuously participated in the deliberations and made useful contributions. I consider that the Opposition should join the parliamentary proceedings and perform their constitutional obligations as expressed by the Leader of the House. I may add that the Government is too anxious to make this House more and more lively and since I have taken over as a Minister of State for Parliamentary Affairs, I have always tried to introduce Bills relating to subjects mentioned in the Concurrent list first in the Senate. This has been my first task since taking over. But this time I was a little let down by my staff that they sent some Bills relating to the subject mentioned in the Concurrent List to the National Assembly. It was done in my absence. So barring three or four legislative measures which were introduced with respect to subjects in the Concurrent list in the National Assembly, all the rest were brought before this House. I thought it proper to get the Bills originated in this august House as far as the Constitution allowed those measures to be taken up over here. Sir, we have been very very amicable and successful in our efforts, and I again thank you and also the honourable Members for their co-operation in this House. They played their important role very successfully. The news media, Television and Radio did their job similarly well and highlighted the importance of the existence of Senate. I consider that by the active participation of the honourable Members of the Senate in the deliberations of the House, we would reach our goal still in a magnificent manner in the coming years.

**Mr. Chairman:** Honourable Members of the House, permit me to express my deep gratitude to you all, for the feelings which have been expressed by the Leader of the House and by the honourable Minister of State for Parliamentary Affairs which reflect the mood of the House. But for your willing co-operation I could not have succeeded in maintaining the standard of debates and the decorum of the House and probably I would not have been able to conduct the proceedings of the House in an orderly and dignified manner. It is all due to your co-operation, the willing co-operation, and I am very appreciative of that. I have been receiving all sorts of co-operation from every quarter and every section of the House. We are now leaving this year and I feel personally without any sense of guilt or regret that we are quite proud of the record of our performance. Our level of debate has been reasonably high, and I do not think we have disappointed the public or the Members, and we have risen to their expectations in the performance of our duties as Parliamentarians. I have noticed with great pleasure and pride the rising level of the debates. We have always avoided fire works, playing to the gallery and indulging in unnecessary and irrelevant showy things. We have always been relevant to the point and it is very seldom that I have been called upon to pull any of the honourable Member for being irrelevant or for being unmannerly or indignified or making their speeches in violation of the rules of the House. I don't remember any such occasion. It was due to your

own conduct as parliamentarians. I am proud of you and you can be proud of yourselves, and the country also appreciates your performance. So far as the Press is concerned, I have never allowed myself to express my opinion or comment upon their conduct but by and large the Press has always been co-operative. They have faithfully carried the reports of the proceedings of the House, except on one occasion which was a very minor thing. I think, it was due to some misunderstanding. I have never found the Press at fault so far. So, my thanks are equally due to the Press also.

As regards staff of the Senate Secretariat, you can appreciate better than I do that they have always been at your service. They have never let you down. They have never conducted themselves in a manner which annoyed you and have gone against your wishes. To the best of their ability they have always executed their duty according to the rules not only to the rules of Procedure but the Rules of Conduct also. I take this opportunity to express my gratitude to them also. So, gentlemen, as the Leader of the House has said I wish you the best of luck, and I hope I am quite confident that the House will be able to maintain its high traditions, and I am also feeling that we have not only maintained the old traditions—parliamentary traditions but we have established some new traditions also. We will maintain them and we will establish further healthy traditions, so that in our absence when we are no more here, people may not say that we have failed in our duty either to this House or to the country.

Gentlemen, in the end, I will again thank you for your co-operation, for your support, and for the manner in which you have conducted yourselves and conducted the proceedings of the House. Thank you.

Before I read out the Prorogation Order received by the President, I will just give a brief account of the performance of the House. and I think I hope you will bear with me for a couple of moments more because it was agreed, it was understood that we will be finishing our work by 7.00. Some of the gentlemen were about to leave for their homes but I think we will finish it earlier. So, you will not mind. It is for information of the Press, for your information and for information of the public, I will just read out in brief our performance.

During 1975 the Senate held 90 sittings spread over 4 sessions. The total number of Joint Sittings was only 3. So far as the Legislation is concerned the Senate passed 70 Bills, out of which 64 were transmitted by the National Assembly, and 6 introduced and passed in the Senate. Only 2 Bills introduced in the Senate remained pending. 2 Bills, received from the National Assembly, were passed by the Senate with amendments. 26 Bills out of 72 were processed through Standing Committees. 4 Bills were passed in joint sitting. No private Members Bill was received. Only one Private Bill pending from last year remained under consideration of the Standing Committee. The Standing Committees of the Senate held 35 meetings while the Special Committee appointed for framing the Rules of Procedure held 24 meetings only.

**Questions :** In all 286 questions were received out of which 235 were admitted and 123 were answered. Only 20 questions were disallowed out of the whole lot only 20 were disallowed because for being irrelevant or not permissible under the rules, as you know. The remaining questions lapsed on prorogation of the Senate.

**Resolutions :** Notices of 17 resolutions were received out of which 13 were admitted. One resolution was adopted and 4 were discussed or withdrawn by the Members and 1 lapsed. 7 resolutions remained pending.

**Adjournment motions :** Notices of 90 adjournment Motions were received out of which 14 were ruled out as inadmissible. 64 motions fell through because of the absence of the movers or were not moved while admissibility of 12 was discussed but they were later not pressed and withdrawn.

**Privilege motions :** Notices of 13 privilege motions were received out of which 4 were ruled out of order, 2 were referred to the Committee on Rules of Privileges, 2 were withdrawn and 5 motions fell through because of the absence of the movers.

**Motions under rule 187 :** Notices of 28 motions were received out of which only 20 were admitted, 6 disallowed and 2 were withdrawn. Of the 20 motions admitted, 2 were discussed, five fell through because of the absence of movers and the remaining 13 lapsed. One motion pending from the last year, was also discussed.

So this is the short and long history of the current year which is about to end. As I told you by all standards, our performance has been very excellent, very good and I hope that we will continue to do in the same manner in future Sessions also.

### PROROGATION

Now, Gentlemen, before we rise I will just read the Order of Prorogation received from the President. The Order reads :

“In exercise of the powers conferred, by clause (1) of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate on the conclusion of its sittings on the 24th December, 1975.

Sd/-

President of Pakistan”

Thank you once more, gentlemen. Now the House stands prorogued.

---

*Then the House stood prorogued.*

---